

## برامپٹن سٹی کونسل نے نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے

برامپٹن، آن (22 جنوری 2020) – آج کونسل کے اجلاس کے دوران، برامپٹن سٹی کونسل نے برامپٹن میں نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعلان کرنے کی ایک قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔

یہ قرارداد سٹی کونسلر ہرکرات سنگھ نے پیش کی تھی اور میئر پیٹرک براؤن اور تمام کونسلرز نے اس قرارداد کی بھرپور حمایت کی۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے:

- کہ سٹی آف برامپٹن کے لیے نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعلان کیا جائے؛ اور
- یہ کہ CAO اور سٹی کے متعلقہ عملے سے درخواست کی جائے کہ وہ برامپٹن سوک ہسپتال اور پیل میموریل سینٹر کو فوری طور پر نگہداشت صحت کے لیے ضروری فنڈنگ جاری کرنے کے لیے ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم (WOHS)، صوبہ اونٹاریو اور حکومت کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کرے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مریضوں کو فوری طور پر محفوظ اور معیاری نگہداشت فراہم کرنے کے لیے مکمل عملے اور وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہوں؛ اور
- یہ کہ CAO اور سٹی کے متعلقہ عملے سے درخواست کی جائے کہ وہ ایک مکمل طور پر فعال ایمرجنسی ڈیپارٹمنٹ اور ہسپتال کے اضافی بستروں کے ساتھ داخل مریضوں کے لیے کافی مقدار میں خدمات کو یقینی بنانے کے لیے ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم (WOHS)، صوبہ اونٹاریو اور حکومت کینیڈا کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ بستروں کی تعداد صوبہ کی اوسط فی کس کے برابر ہونی چاہیے، جس کے لیے پیل میموریل سنٹر فار انٹیگریٹڈ ہیلتھ اینڈ ویلنسیس کی ترقی کے مرحلہ دو میں پیل میموریل سنٹر میں اضافی 850 بستروں کی ضرورت ہے، جسے صوبائی حکومت کے موجودہ دور کے دوران ہی مکمل کیا جانا چاہیے؛ اور
- یہ کہ اس قرارداد کی ایک نقل وزارت صحت، صوبائی پارلیمنٹ میں برامپٹن کے تمام اراکین، آفس آف پریمیئر، حزب اختلاف کی جماعتوں کے تمام صوبائی پارلیمانی رہنماؤں، وفاقی پارلیمنٹ میں برامپٹن کے تمام اراکین، ولیم اوسلر ہیلتھ سسٹم کے صدر اور سی ای او، برامپٹن/ایٹویبیوک اور ایریا اونٹاریو ہیلتھ ٹیم اور ریجن آف پیل کو ارسال کی جائے۔

دسمبر میں کونسل نے ایک قرارداد منظور کی تھی، جو برامپٹن کے نگہداشت صحت کے نظام کی منفرد اور فوری ضروریات کو تسلیم کرتی تھی، بشمول فنڈنگ کی انتہائی کمی، انتظار کے لمبے اوقات اور جگہ کی کمی کے باعث باہر علاج۔ اس قرارداد نے نگہداشت صحت کے نظام کے تمام فراہم کنندگان سے فوری طور پر عملی کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔

سٹی نے برامپٹن کے نگہداشت صحت کے نظام کے لیے فنڈنگ اور معاونت کی درخواست کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ ان میں فیڈریشن آف کینیڈین میونسپلٹیز اور ایسوسی ایشن آف میونسپلٹیز آف اونٹاریو کی سالانہ کانفرنسوں پر صوبائی اور وفاقی نمائندوں کے سامنے مسائل پیش کرنا، صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے لیے آنے والی قبل از بجٹ تجاویز کے ذریعے حکومت کے دونوں درجوں پر وکالت اور حمایت کرنا اور برامپٹن کے نگہداشت صحت کے خدشات کے حوالے سے آگاہی اور حمایت پیدا کرنے کے لیے نگہداشت صحت کی مطالبے کے لیے [#FairDealForBrampton](#) مہم کو فروغ دینا شامل ہے۔

اب تک [#FairDealForBrampton](#) مہم کے تحت 18,000 رہائشیوں نے صوبے کے لیے ایک پٹیشن پر دستخط کیے ہیں، جو برامپٹن اور دیگر میونسپلٹیوں کے درمیان فنڈنگ کے فرق کو دور کرنے، پیل میموریل سنٹر میں سہولیات اور خدمات کو بڑھانے کے لیے فنڈنگ اور معاونت فراہم کرنے اور برامپٹن میں تیسرے فریق کی نگہداشت صحت کی کسی سہولت گاہ کے لیے فنڈنگ دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔

### اقتباسات

"برامپٹن کے نگہداشت صحت کے نظام کو صوبائی حکومت کی جانب سے فنڈنگ اور معاونت کی سخت ضرورت ہے۔ برامپٹن سٹی کونسل کی جانب سے، ہم سب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم نے برامپٹن میں باضابطہ طور پر نگہداشت صحت کی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور اپنی کمیونٹی کی اہم ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نگہداشت صحت کے نظام کے تمام فراہم کنندگان سے فوری عمل اور عملی اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔"

- میئر پیٹرک براؤن

"کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے ایک بڑے شہر کے طور پر برامپٹن منصفانہ اور معقول نگہداشت صحت کا حق رکھتا ہے۔ ہمارے مریض شہر کے واحد ہسپتال کی راہداریوں میں مر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نگہداشت صحت کے حوالے سے منصفانہ سلوک کا مطالبہ کریں اور انتہائی گنجان اور فنڈنگ سے محروم راستوں میں کیے جانے والے علاج کو روک دیں۔ برامپٹن اب مزید انتظار کرنا برداشت نہیں کر سکتا!"

- رووینا سینٹوس، چیئر، کمیونٹی سروسز

"اس قرارداد کو آج پیش کرنا انتہائی ضروری تھا۔ برامپٹن میں راہداریوں میں علاج کیے جانے اور گنجان ہونے کو مسلسل اس چیز کی مثال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ قومی طور پر نگہداشت صحت کا بحران کیسا نظر آتا ہے۔ برامپٹن کو اپنا منصفانہ حصے ملنا چاہیے اور ہمارے رہائشی معقول نگہداشت صحت تک رسائی کا بنیادی حق رکھتے ہیں۔"

- ہرکرات سنگھ، سٹی کونسلر، وارڈز 9 اور 10

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)